

INTERMEDIATE PART-II (12th CLASS)

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II پرچہ - دوسرا آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس
(NEW SCHEME) (2015-2017 سیشن) (نیو سکیم)

TIME ALLOWED: 2.40 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.40 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 68

کل نمبر = 68

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوال پرچہ میں درج ہے۔

NOTE: - Write same question number and

its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2 - کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Write down names of four Non-essential Amino Acids.
- Write chemical composition of Carbohydrates.
- Define Calorie.
- What is the identification of a Healthy Person?
- Describe four main functions of a Protein.
- Write important functions of Protein.
- Define Fats.
- Write the importance of Water.
- Write names of Poly Saccharides.
- How many food groups are there?
- Which points would you keep in mind while selecting food for patient?

- چار غیر ضروری امانو ترشوں کے نام لکھیں۔
- کاربوہائیڈریٹس کی کیمیائی ساخت بیان کریں۔
- حرارہ کی تعریف کریں۔
- ایک صحت مند انسان کی کیا پہچان ہے؟
- پروٹین کے چار اہم کام بیان کریں۔
- لحمیات کے اہم کام بیان کریں۔
- روغنیات کی تعریف کریں۔
- پانی کی اہمیت بیان کریں۔
- کثیر شکر می شکروں کے نام لکھیں۔
- غذا کے بنیادی گروہ کتنے ہیں؟
- مریض کی غذا کے سلسلے میں کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟

(xii) What are good sources of Iron?

(xii) فولاد کے بہترین ذرائع کون سے ہیں؟

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3 - کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Write functions of Vitamin "C" in the body.
- Write any four principles of Menu Planning.
- What is the importance of Iron in our body?
- Write down the advantages of Fats.
- What are Natural Fibres? Write names.
- Which Food is called the basic food?
- Describe four main functions of Fats.
- What is Goiter disease?
- Write the method of Buffet System.
- Write main objectives of Cooking Food.
- Which points would you keep in mind while purchasing meat?

- حیاتین "ج" کے جسم میں کام بیان کریں۔
- فہرست طعام کے کوئی چار اصول تحریر کریں۔
- ہمارے جسم میں فولاد کی کیا اہمیت ہے؟
- چکنائی کے فوائد بیان کریں۔
- قدرتی ریشے کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔
- بنیادی خوراک کون سی خوراک کہلاتی ہے؟
- روغنیات کے چار اہم افعال بیان کریں۔
- گلپڑ کی بیماری کسے کہتے ہیں؟
- بوفے کا طریقہ بیان کریں۔
- خوراک پکانے کے اہم مقاصد لکھیں۔
- گوشت کی خریداری میں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟

(xii) Write any two machine troubles and their solution.

(xii) مشین میں ہونے والی کوئی سی دو خرابیاں اور ان کا حل لکھیں۔

(درج لکھئے)

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write procedure of taking care of Sewing Machine. (i) سلائی مشین کی حفاظت کا طریقہ لکھیں۔
- (ii) What is Grain Line? (ii) گرین لائن کسے کہتے ہیں؟
- (iii) Which principles should be of Good Fitting? (iii) اچھی فٹنگ کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہئے؟
- (iv) How will you take care of woollen clothes? (iv) اونٹنی کپڑوں کی دیکھ بھال آپ کیسے کریں گے؟
- (v) What is a Linen Plant called? (v) لینن کے پودے کو کیا کہتے ہیں؟
- (vi) Which points would you keep in mind before stitching any cloth? (vi) کپڑے کو سلائی سے پہلے آپ کن باتوں کو مد نظر رکھیں گی؟
- (vii) What is meant by Self Grooming? (vii) ذاتی زیبائش سے کیا مراد ہے؟
- (viii) Write down method to get proficiency on machine. (viii) مشین پر مہارت حاصل کرنے کا طریقہ لکھیے۔
- (ix) For which type of clothing is twill weave appropriate? (ix) ٹویل بنائی کن کپڑوں کے لیے موزوں ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Write down steps of making thread from cotton fibre. (5) سوئی ریشے سے دھاگا بنانے کے مراحل بیان کیجیے۔
6. Why food is cooked? (6) کھانا کیوں پکا جاتا ہے؟ کھانا پکانے کے مختلف طریقے تفصیل سے بیان کریں۔
Write different methods of cooking food in detail.
7. Write about silk fibre in detail. (7) ریشم کے ریشے کو تفصیل سے بیان کیجیے۔
8. What is meant by Food requirements? (8) غذائی ضروریات سے کیا مراد ہے؟ شیرخوارگی کے دور کی غذائی ضروریات بیان کیجیے۔
Write down food requirements of infancy period.
9. Write down main sources of Protein (9) پروٹین کے اہم ذرائع نیز اس کے کام اور کمی سے پیدا ہونے والے امراض تحریر کیجیے۔
and write its functions and deficiency diseases.

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا
 (نیو اسکیم) (سیشن 2015-2017)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 17

کل نمبر = 17

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا چین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پڑ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر ہرگز سوالات حل نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) If antibodies are not produced then:-
 (A) Anaemia occurs انہمیما ہو جاتا ہے (B) Resistance power develops قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے
 (C) Weakness occurs کمزوری ہو جاتی ہے (D) Resistance power decreases قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے
- (2) Wardrobe planning means:-
 (A) Types of clothes کپڑوں کی اقسام (B) Wardrobe کپڑوں کی الماری
 (C) Selection of clothes with planning کپڑوں کا سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا (D) Collect more clothes کپڑوں کا زیادہ جمع کرنا
- (3) Vitamin _____ works for the coagulation of blood.
 (A) E (B) C (C) K (D) B
 خون کے انجماد کے لیے وٹامن _____ کام کرتا ہے۔
- (4) _____ is unavoidable after water in wet cooking method.
 (A) Steam بخار (B) Fire آگ (C) Heat حرارت (D) Smoke دھوئیں
 تر پکوانے میں پکانے کے طریقے میں پانی کے بعد _____ کا استعمال ناگزیر ہے۔
- (5) _____ is needed to make designs with Computer Machine.
 (A) Ripper رپر (B) Thimble انگشتانہ (C) Thread دھاگا (D) Different Discs مختلف ڈسکس
 کمپیوٹر سے چلنے والی مشین میں ڈیزائن بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
- (6) An adult giri daily needs iron of:-
 (A) 12 mg (B) 15 mg (C) 25 mg (D) 20 mg
 ایک بالغ لڑکی کو فوڈ کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔
- (7) Chemical name of Vitamin C is:-
 (A) Ascorbic Acid اسکوربک ایسڈ (B) Folic Acid فولک ایسڈ
 (C) Nicotinic Acid نکوٹینک ایسڈ (D) Pantothenic Acid پینٹوٹھینک ایسڈ
 جیاتین جی کا کیمیائی نام ہے۔
- (8) While cutting the cloth diagonally its angle should be:-
 (A) 45° (B) 90° (C) 360° (D) 180°
 کپڑے کی ترچھان کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا زاویہ ہو۔
- (9) Weakest fibre among all fibres is:-
 (A) Linen لینن کا (B) Silk ریشم کا (C) Wool اون کا (D) Cotton کاٹن کا
 ریشم میں کمزور ریشم ہوتا ہے۔
- (10) Deficiency of Niacin causes disease of:-
 (A) Pellagra پلاگرا (B) Scurvy سکروی (C) Osteomalacia آسٹومالیسیا (D) Xerophthalmia زبردقتیہلیہیا
 نیا سین کی کمی سے ہونے والی بیماری کہلاتی ہے۔
- (11) The diet of patient should be:-
 (A) Over cooked زیادہ پکی ہوئی (B) Balanced متوازن (C) Hard سخت (D) Fatty or oily چکنی اور روغنی
 مریض کی غذا ہونی چاہئے۔
- (12) _____ in blood balances Acidity and Basicity.
 (A) Calcium کلسیم (B) Sulphur سلفر (C) Magnesium میگنیشیم (D) Phosphorus فاسفورس
 خون میں تیزابیت اور اساسیت کو متوازن رکھتا ہے۔
- (13) In order to compensate the deficiency of Carbohydrates it is essential:-
 (A) Minerals معدنی نمکیات (B) Vitamins جیاتین (C) Fats چکنائی کا (D) Protein and fats components لحمیاتی اور روغنی اجزاء
 کاربوہائیڈریٹس کی کمی کو پوری کرنے کے لیے غذا میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔
- (14) Disaccharides are:-
 (A) Fructose فrukٹوز (B) Glucose گلوکوز (C) Lactose لیکٹوز (D) Galactose گالاکٹوز
 دو شکر مرکبات ہیں۔
- (15) _____ is attached to a sewing machine operated by feet.
 (A) Stand سینڈ (B) Handle ہتھی (C) Wood لکڑی (D) Glass شیشہ
 پاؤں سے چلنے والی سوائی مشین کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔
- (16) _____ hours sleep is required to maintain health.
 (A) Four to six چار سے چھ (B) Eight to ten آٹھ سے دس (C) Six to eight چھ سے آٹھ (D) Ten to twelve دس سے بارہ
 صحت قائم رکھنے کے لیے _____ گھنٹے نیند ضروری ہے۔
- (17) _____ have more proportion in the diet of children.
 (A) Vitamins جیاتین کا (B) Fats چکنائی کا (C) Minerals نمکیات کا (D) Proteins پروٹینز کا
 بچوں کی غذا میں تناسب زیادہ ہوتا ہے۔

INTERMEDIATE PART-II (12th CLASS)

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا

(OLD SCHEME)

(2012-2014 سیشن)

(اولڈ سکیم)

TIME ALLOWED: 3.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 3.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 83

کل نمبر = 83

NOTE: - Write same question number and

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2۔ کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Food.

(i) غذا کی تعریف کیجیے۔

(ii) Write down types of Fats.

(ii) چکنائیوں کی اقسام تحریر کیجیے۔

(iii) Make a chart of three Basic Food Groups.

(iii) غذا کے تین بنیادی گروہوں کا چارٹ تحریر کریں۔

(iv) What do you know about Retinol and Carotene?

(iv) ریٹینول اور کیروٹین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(v) Write down four main functions of Minerals.

(v) معدنی نمکیات کے چار اہم افعال تحریر کیجیے۔

(vi) Write chemical composition of Carbohydrates.

(vi) کاربوہائیڈریٹس کی ساخت بیان کیجیے۔

(vii) Write down the names of Polysaccharides.

(vii) کثیر شکر کی شکروں کے نام تحریر کریں۔

(viii) What is the identification of a Healthy Person?

(viii) ایک صحت مند انسان کی کیا پہچان ہے؟

(ix) Write the important points of Purchasing Food.

(ix) خوراک کی خریداری کے اہم نکات تحریر کریں۔

(x) Write about the nutritious requirements of Infancy.

(x) شیر خوارگی کی غذائی ضروریات کے بارے میں لکھیں۔

(xi) What do you know by the process of Hydrogenation?

(xi) ہائیڈروجنیشن کا عمل کسے کہتے ہیں؟

(xii) Which are Water Soluble Vitamins?

(xii) پانی میں حل پذیر حیاتین کون سے ہیں؟

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3۔ کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write a short note on Goiter.

(i) گلہڑ کی بیماری پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔

(ii) What is meant by Menu Planning?

(ii) فہرست طعام سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write down the method of Buffet System.

(iii) بوفے کا طریقہ بیان کیجیے۔

(iv) What are the main sources of Iron?

(iv) فولاد کے بہترین ذرائع بیان کیجیے۔

(v) What are the main functions of Minerals?

(v) معدنی نمکیات کے اہم افعال کون سے ہیں؟

(vi) How can you check the freshness of fruits and vegetables?

(vi) آپ پھلوں اور سبزیوں کی تازگی کیسے جان سکتے ہیں؟

(vii) What is the role of Calcium in our diet?

(vii) ہماری غذا میں کیلیم کا کیا کردار ہے؟

(viii) Write different methods of cooking food.

(viii) کھانا پکانے کے مختلف طریقے بیان کریں۔

(ix) Write the deficiency effect of Vitamin C.

(ix) حیاتین سی کی کمی کے اثرات بیان کیجیے۔

(x) Write down the principles of Buying Staple Food.

(x) اناجوں کی خریداری کے اصول تحریر کیجیے۔

(xi) How can you produce variety in food?

(xi) کھانے میں تنوع کس طرح پیدا کیا جاسکتا ہے؟

(xii) Write down the main objectives of cooking food.

(xii) خوراک پکانے کے اہم مقاصد بیان کیجیے۔

(درج ذیل)

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Prepare the list of items of Sewing Box. (i) سلائی کے ڈبے کی اشیا کی لسٹ تیار کیجیے۔
- (ii) Write a note on Mercerization. (ii) مرسرائزیشن پر نوٹ تحریر کریں۔
- (iii) Write down the method to get proficiency on Machine. (iii) مشین پر مہارت حاصل کرنے کا طریقہ لکھیں۔
- (iv) Write any test for Fibre identification. (iv) ریشوں کی شناخت کا کوئی سا طریقہ تحریر کریں۔
- (v) Which points should you consider for personal grooming? (v) ذاتی زیبائش کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
- (vi) Write down the names of Synthetic Fibre. (vi) کیمیائی ریشوں کے نام لکھیں۔
- (vii) What is Linen Plant called? (vii) لینن کے پودے کو کیا کہتے ہیں؟
- (viii) How do you do a wardrobe planning for Young Children? (viii) چھوٹے بچوں کے کپڑوں کی منصوبہ بندی آپ کیسے کرتی ہیں؟
- (ix) Write down the principles of Drafting. (ix) ڈرافٹنگ کے بنیادی اصول لکھیں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Which are essential Nutrients? (5) غذائی اجزاء کون کون سے ہیں؟ ان کے افعال اور غذائی ذرائع تحریر کیجیے۔
Write down their functions and feed sources.
6. Write down the structure, functions and deficiency effects of Protein. (6) لحمیات کی ساخت، افعال اور کمی کے اثرات تحریر کریں۔
7. What is Natural Fibre? (7) قدرتی ریشہ سے کیا مراد ہے؟ اونی ریشہ کے حاصل کرنے سے تیاری تک کے مراحل بیان کیجیے۔
Write down the process of preparation of woollen fabric starting from fibre.
8. Write down different ways of serving food in detail. (8) کھانا پیش کرنے کے مختلف طریقے تفصیل سے بیان کیجیے۔
9. Write down the importance of Knowledge of Fibres. (9) ریشوں کے مطالعے کی اہمیت بیان کیجیے۔

SECTION-III حصہ سوم

10. NOTE: - Attempt any three parts.

15 = 5 x 3

10۔ (پرکینیٹکل حصہ) کوئی سے تین اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (A) Which points are to be considered while planning a menu for a family? (A) ایک خاندان کی فہرست طعام ترتیب دینے کے لیے کن نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟
- (B) Write different parts of a sewing machine and their functions. (B) سلائی مشین کے اہم پرزوں کے نام اور کام تحریر کریں۔
- (C) Write down the importance of taking correct measurement for good fitting. (C) اچھی فٹنگ کے لیے مناسب ناپ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔
- (D) Which points would you consider while planning your wardrobe? (D) اپنے لباس کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے آپ کن نکات کو مد نظر رکھیں گے؟
- (E) What is the most important point in purchasing food? (E) خوراک کی خریداری کرتے ہوئے سب سے اہم بات کیا ہے؟ نیز پھل اور سبزیاں خریدتے وقت آپ کن باتوں کو مد نظر رکھیں گے؟
- (E) What is the most important point in purchasing food? (E) خوراک کی خریداری کرتے ہوئے سب سے اہم بات کیا ہے؟
What points would you keep in consideration while purchasing vegetables and fruits?

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا

(OLD SCHEME)

(2012-2014 سیشن)

(اولڈ سکیم)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 17

کل نمبر = 17

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کٹ کر بھر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles بھرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D.

The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) Types of Vitamins are:- (1) وٹامن کی اقسام ہیں۔
 (A) Two دو (B) Four چار (C) Six چھ (D) Eight آٹھ
- (2) Vitamin A found in vegetable sources is called:- (2) وٹامن اے کے نباتاتی ذرائع میں پائی جانے والی شکل کو کہتے ہیں۔
 (A) Carotene کیروٹین (B) Protein پروٹین (C) Tyrosine ٹائروسین (D) Sistine سسٹین
- (3) Vitamin _____ is responsible for Blood clotting. (3) خون کے انجماد کے لیے وٹامن _____ ذمہ دار ہوتا ہے۔
 (A) A اے (B) C سی (C) D ڈی (D) B بی
- (4) Rickets and Osteomalacia disease is caused due to deficiency of Vitamin _____. (4) ریکٹس اور اوسٹیو ملیشیا کا مرض وٹامن _____ کی کمی سے ہوتا ہے۔
 (A) A اے (B) D ڈی (C) C سی (D) E ای
- (5) The diet of patient should be:- (5) مریض کی غذا ہونی چاہیے۔
 (A) Over cooked زیادہ پکی ہوئی (B) Very hard بہت سخت (C) Balanced متوازن (D) Oily چکنی روغنی
- (6) Goiter is caused due to deficiency of _____ mineral. (6) گلپڑ کی بیماری معدنی نمک _____ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
 (A) Calcium کیلسیم (B) Iron فولاد (C) Iodine آیوڈین (D) Phosphorus فاسفورس
- (7) _____ is a chemical name for Niacin. (7) نیا سین کا کیمیائی نام ہے۔
 (A) Sulphuric acid سلفیورک ایسڈ (B) Ascorbic acid اسکوربک ایسڈ (C) Acetic acid ایسٹک ایسڈ (D) Nicotinic acid نکوٹینک ایسڈ
- (8) Di-saccharides are:- (8) دو شکر کی مرکبات میں شامل ہیں۔
 (A) Glucose گلوکوز (B) Fructose فرکٹوز (C) Cellulose سیلولوز (D) Lactose لیکٹوز
- (9) _____ paper should be used for drafting. (9) ڈرافٹنگ بنانے کے لیے _____ رجب کا کاغذ استعمال کرنا چاہیے۔
 (A) Brown خاک کی (B) White سفید (C) Blue نیلا (D) Black کالا
- (10) Satin weave is suitable for _____ type of fabric. (10) ساتن بنائی _____ کے لیے ضروری ہے۔
 (A) Cotton clothes سوتی کپڑوں (B) Synthetic fabric کیمیائی ریشموں سے بنے کپڑے (C) Wollen clothes اونی کپڑوں (D) Silky fabric ریشمی کپڑوں
- (11) Longest fibre is of:- (11) سب سے لمبا ریشہ ہوتا ہے۔
 (A) Cotton کاتن (B) Linen لینن (C) Silk ریشم (D) Wool اون
- (12) The finishing process in which fabric is passed through a steamed roller is called:- (12) جس عمل میں کپڑے کو بھاپ دار رولر سے گزارا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔
 (A) Napping روئیں دار بنانا (B) Mercerization مرسرائزیشن (C) Bleaching بلیچنگ ریشم کرنا (D) Calendring کلینڈرنگ
- (13) If there is no oil in sewing machine then _____. (13) مشین میں تیل نہ ہو تو:-
 (A) Machine runs heavy مشین بھاری چلتی ہے (B) Needle breaks down سوئی ٹوٹ جاتی ہے (C) Upper thread breaks down اوپر کا دھاگا ٹوٹتا ہے (D) Lower thread breaks down نیچے کا دھاگا ٹوٹتا ہے
- (14) _____ is attached with sewing machine operated by feet. (14) پاؤں سے چلنے والی مشین کے ساتھ _____ لگتا ہے۔
 (A) Wood لکڑی (B) Handle ہتھی (C) Stand سٹینڈ (D) Glass شیشہ
- (15) _____ angle is required to cut the bias. (15) کپڑے کی ترجمان کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا زاویہ ہو:-
 (A) 45° (B) 90° (C) 180° (D) 360°
- (16) Short, coarse and layer type fibre is of:- (16) چھوٹا، کھردرا اور تہ دار ریشہ ہوتا ہے۔
 (A) Cotton کاتن (B) Silk ریشم (C) Wool اون (D) Rayon رے آن
- (17) Wardrobe planning means:- (17) کپڑوں کی منصوبہ بندی سے مراد ہے۔
 (A) Selection of clothes by planning منصوبہ بندی سے کپڑوں کا انتخاب (B) Types of clothing کپڑوں کی اقسام (C) Wardrobe of clothes کپڑوں کی الماری (D) Addition of too much clothes بہت زیادہ کپڑوں کو جمع کرنا

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,

MULTAN ✓

OBJECTIVE KEY FOR INTER (PART I/II) Annual Examination, 2017.

Name of Subject Outlines of Theme Session 2015-2017

Group: 1st New Scheme Economics Group: 2nd Old Scheme

Q. Nos.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	4211	4211	4211	4211
1.	D			
2.	C			
3.	C			
4.	A			
5.	D			
6.	B			
7.	A			
8.	A			
9.	C			
10.	A			
11.	A			
12.	A			
13.	D			
14.	C			
15.	A			
16.	C			
17.	D			
18.	/			
19.	/			
20.	/			

Q. Nos.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	8211			
1.	A			
2.	A			
3.	ABCD			
4.	B			
5.	A			
6.	C			
7.	D			
8.	D			
9.	A			
10.	D			
11.	C			
12.	D			
13.	A			
14.	C			
15.	A			
16.	C			
17.	A			
18.	/			
19.	/			
20.	/			

سرٹیفیکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ مارکنگ Key

ہم نے مضمون آؤٹ لائن آف پرچہ دو سمر گروپ تیم ہینر + اولڈ ایئر سالانہ امتحان 2017 کا سوالیہ پرچہ تیار کیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی (Subjective & Objective) کو نظر عین چیک کر لیا ہے یہ پرچہ سلیبس کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں اور سلیبس (Syllabus) کے مطابق بھی ہیں۔ نیز اس پرچہ کی Key کی بابت بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بھی درست بنائی گئی ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔

PREPARED & CHECKED BY

Sr.No Name Designation Institution Mobile No.

Signature Ainul Uddin

ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ: 09-05-2017 مضمون: آڈیٹل این آف پریچ: دوسرا گروپ:

بہارم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (مارکنگ سکیم)
Key اولڈ سکیم اینڈ سکیم (مارکنگ سکیم)

انٹرنیٹ ٹیسٹ اینڈ سالانہ امتحان 2017ء

Sr #	Code	Error Indicated	Sr #	Code	Error Indicated
1.	UN	Un-Necessary	8.	SP	Spelling Error
2.	Ir	Irrelevant	9.	P	Punctuation
3.	IN	Incomplete	10.	Wo	Wrong word error
4.	EX	Extra	11.	Wt	Wrong Tense
5.	Rp	Re-Produced	12.	Wf	Wrong Form
6.	I	Insufficient	13.	OA	Over Attempt
7.	Gr	Grammar Error			

اہم نوٹ: ہر سوال "Full Award" سے کم نمبر لگانے کی صورت میں وجہ ضرور لکھیں۔

Instructions for checking the
Home Economics Papers.

1. Try to avoid marking in
fractions. But if not possible
then try to make it round
figure in the next few questions.

2. Make a uniform policy for
marking by setting the
answers. So that no injustice
be done to the students.

1. Aishah
2. Aishah
3. Aishah
09-05-17